



مجلس البحث والدراسات
معدن فتوى
ISLAMIC RESEARCH COUNCIL

سوال

ایک نیل یا گائے سے سات عمیقے

جواب



السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

جس طرح ایک بتل یا ایک گائے سے سات قربانیاں کی جا سکتی ہیں، کیا اسی طرح ہم تین بیٹوں اور ایک بیٹی کے لیے حقیقتہ کر سکتے ہیں۔؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

بڑے جانور سے حقیقتہ کرنے کے بارے اہل علم کے ہاں دو قول پائے جاتے ہیں۔ جن کے نزدیک بڑے جانور سے حقیقتہ کیا جا سکتا ہے ان کے نزدیک ایک گائے یا بتل سات بکریوں کے برابر ہوتے ہیں، اور ان سے تین بیٹوں اور ایک بیٹی کا حقیقتہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ قول مرجوح ہے۔

اور راجح قول کے مطابق حقیقتہ میں لڑکے کی طرف سے دو بکریاں اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری ذبح کی جائے۔ کیونکہ حدیث مبارکہ میں شاة کا لفظ آیا ہے جو صرف بھیر اور بکری کی جنس پر بولا جاتا ہے۔ گائے اور اونٹ شاة میں شامل نہیں ہیں۔ لہذا بڑے جانور کو ایک لڑکے یا لڑکی کے حقیقتہ میں بھی ذبح نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی بچہ سات لڑکے لڑکیوں کے حقیقتہ میں ذبح کیا جا سکتا ہے اونٹ اور گائے کے حقیقتہ کے متعلق سیدنا انس سے جو روایت پیش کی جاتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے حقیقتہ میں اونٹ کیا کرتے تھے، وہ ضعیف ہے۔ اس میں ایک راوی قتادہ مشہور و معروف مدلس موجود ہیں۔ جبکہ اس کے مقابلہ میں شاة والی صحیح روایت موجود ہے۔ جس میں بڑے جانور کے حقیقتہ سے منع بھی کیا گیا ہے۔

أخبرنا أبو يوسف بن مكرم قال: دخلت أنا، وأبني مكيبة على حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بجر، ووددت للفرزدق بن الرزير غلانا، فقالت: «عرا عقتت بزورنا على ابني»، فقالت: «مناذ الله كائن عنتي عائشة، تقول: «علي الظلام شامان، وعلي الظلمة شاة» [مصنف عبد الرزاق: 4/328].

علامہ البانی رحمہ اللہ اس روایت کے بارے میں فرماتے ہیں: وإسناده صحيح [سلسلة الأحاديث الصحيحة (8/1)]

اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ حقیقتہ میں بڑا جانور نہیں کرنا چاہیے۔

اسی طرح حقیقتہ کے جانور کے لیے مسنہ (دو دانت یا اس کے اوپر والا) ہونا کوئی لازمی نہیں بعض اہل علم اضحیہ قربانی پر قیاس کرتے ہیں اور مسنہ کو لازمی قرار دیتے ہیں لیکن نص میں شامان اور شاة عام ہیں مسنہ اور غیر مسنہ دونوں کو شامل ہیں تو نص مقدم ہے لہذا حقیقتہ میں مسنہ لازمی نہیں ہے۔

هدا ما عندي والله اعلم بالصواب

فتویٰ کیٹی

محدث فتویٰ